

تجوید ٹپ - 14

✓ لمبی سانس کے لیے روزانہ پریکٹس کیجیے۔ اس مقصد کے لیے آپ دو تین آیات کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔

✓ یاد رکھیے: بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے یا آیت کے بیچ میں بھی رکا جائے اگر وہاں وقف کی علامات ہوں

توجہ دیجیے پہلی لائن کے مخارج پر اور دوسری لائن کے صفات و قواعد پر۔

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ 1

ق	ہ، و	ا، ح
ق اونچا	ل موٹا	د پر قلقلہ رکتے وقت

قُلْ هُوَ اللهُ

اونچا ↑ ↑ ↑
موٹا ↑

أَحَدٌ

ح ↑ ↑
قلقلہ رکتے وقت

آو تجوید سیکھیں - آسان طریقے سے
برائے ویڈیو سبق-14b: بریکٹس سُورَةُ الْاِخْلَاصِ 1-2

توجہ دیجیے پہلی لائن کے مخارج پر اور دوسری لائن کے صفات و قواعد پر۔

ج
2 اللّٰهُ الصّٰمِدُ

ص	ل
د پر رکتے وقت قلقلہ	موٹا
ص موٹا	موٹا

اللّٰهُ الصّٰمِدُ

↑
رکتے وقت قلقلہ

↑
خوب موٹا اور اونچا

↑
لام جلالہ موٹا